

تاریخ: _____

درخواست نمبر: _____

غیر رسمی آمدنی والے افراد کے لیے درخواست فارم
حکومتی مارک اپ سبسڈی اسکیم¹

قرضہ لینے کا مقصد

قرضہ لینے کا مقصد (نشان لگائیں):

تعمیر

☐

پلاٹ + تعمیر

☐

مکان / اپارٹمنٹ / فلیٹ کی خریداری

☐

مدت:

درخواست کردہ رقم: _____ روپے

درخواست گزار کی اپنی رقم بذریعہ ایکویٹی: _____ روپے

ذاتی تفصیلات

نام: _____

کمپیوٹر انڈرٹ سناختی کارڈ نمبر: _____

موجودہ رہائشی پتہ: _____

فون نمبر / موبائل نمبر: _____

ماہانہ آمدنی / اخراجات کی تفصیل

مجموعی تنخواہ یا کاروباری آمدنی _____ روپے

کیا آپ بینک (بینک کا نام) کے صارف ہیں؟
اگر ہاں تو، آپ کا اکاؤنٹ نمبر: _____

اخراجات	(رقم روپے میں)	اخراجات	(رقم روپے میں)
کرایہ		تعلیم	
یوٹیلیٹیز (علاوہ از ٹیلی فون)		دیگر اخراجات	
ٹیلی فون		مجموعی ماہانہ اخراجات	
ذاتی اثاثے			
تفصیلات اور اثاثوں کی نوعیت			
(زمین، کار اور دیگر اثاثے، اگر ہوں تو)			
مالیت			

درخواست گزار (وں) کے دستخط: _____

¹ شریک قرض گیر (co-borrower) بھی یہی فارم پُر کرے گا۔

مطلوبہ دستاویزات	اصل / نقل
قرضے کی درخواست کا فارم	اصل
پراڈکٹ کی تفصیلات	اصل
درخواست گزار اور شریک کار دونوں کے مؤثر کمپیوٹر ائزڈ شناختی کارڈ (جہاں اطلاق ہوتا ہو)	نقل
درخواست گزار اور شریک کار دونوں کی 2 پاسپورٹ سائز رنگین تصاویر (جہاں اطلاق ہوتا ہو)	اصل
پہلی بار مکان کی ملکیت کا اقرار نامہ	اصل
رہن رکھی جانے والی پراپرٹی کی الاٹمنٹ، ٹرانسفر اور/ یا ٹائٹل دستاویز (جہاں دستیاب ہو)	نقل
ڈائریکٹ ڈیبٹ اتھارٹی (ڈی ڈی اے) اور آجر کی تصدیقی سند جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ تنخواہ اُسی بینک میں جائے گی جس سے قرض لیا ہو (جہاں اطلاق ہوتا ہو)۔	
اگر صارف کے ذرائع آمدنی غیر رسمی ہیں تو صارف کی اندازاً آمدنی اور ادائیگی کے وسائل کا تعین کرنے کے لیے ذیل میں درج دستاویزات میں سے کسی ایک کی ضرورت ہوگی، مثلاً:	نقل
• کرایہ نامہ	اصل
یا	
• کرایہ ادائیگی کا حلف نامہ	نقل
یا	
• یوٹیلٹی بلز	نقل
یا	
• موبائل فون کے بلز	نقل
یا	
• اسکول فیس چالان	نقل
یا	
• اخراجات کی کوئی اور قابل قبول دستاویز (جس سے اندازاً آمدنی متعین کی جاسکے)	نقل

اعلان:

جب درخواست آگے بڑھے گی تو اندرونی/ بیرونی پالیسی اور ضوابط کے مطابق بینک تمام مطلوبہ اضافی معلومات اور دستاویزات طلب کر سکتا ہے۔

درخواست کی

درخواست گزار (وں) کے دستخط: _____

تاریخ: _____